

کینیڈا کا شہری بننے پر مبارکباد!

میونسپل حکومت، شہر/قصبے کی سطح پر کام کرتی ہے اور پراپرٹی ٹیکس، کچرا اکٹھا کرنے، پانی اور لائبریری کی سہولتوں سے متعلق فیصلے کرتی ہے۔ اگلے میونسپل انتخابات 2020 میں ہوں گے۔

صوبائی حکومت، صحت، تعلیم، بائی ویز اور ڈرائیونگ لائسنس کی سہولتوں سے متعلق فیصلے کرتی ہے۔ الیکشن ساسکیچوان صوبائی انتخابات کا انتظام کرتی ہے اور اگلے انتخابات 2020 میں ہوں گے۔ اگلے صوبائی انتخابات میں ووٹ دینے کے لیے اس نمبر 1-877-958-8683 پر کال کر کے اپنی رجسٹریشن کروائیں۔

وفاقی حکومت وہ تمام فیصلے کرتی ہے جو تمام کینیڈین شہریوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں ملکی دفاع، انکم ٹیکس، ایئر پورٹس اور پاسپورٹس شامل ہیں۔ اگلے وفاقی انتخابات 2019 میں ہوں گے۔

کینیڈا کا شہری بننے کے کئی فوائد ہیں۔ امن اور خوبصورت قدرتی مناظر کے علاوہ کینیڈا کے شہری نئے آنے والوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن کینیڈین شہری ہونے کی حیثیت سے آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک ذمہ داری ووٹ دینے کا حق اور اختیار ہے۔

ہم ووٹ دینے کی قانونی عمر (18) سال سے زائد کے ہر شخص کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ تینوں حکومتی سطحوں کے انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالیں۔

www.elections.sk.ca/NewCanadians



حصہ لیں۔ آمدنی حاصل کریں۔

کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ الیکشن والے دن کام کر کے آمدنی حاصل کر سکتے ہیں؟ صوبائی انتخابات کے دوران 11,000 شہری پورے ساسکیچوان میں پولنگ اسٹیشنوں پر مختلف حیثیتوں سے کام کرتے ہیں۔

18 سال سے زائد عمر کے نئے کینیڈین شہریوں کے لیے بہت سی ملازمتیں دستیاب ہیں! اگر آپ 2020 کے صوبائی الیکشن میں کام کرنے کے خواہشمند ہیں تو www.elections.sk.ca/takepart پر سائن اپ کیجیے۔

WORK



www.elections.sk.ca/NewCanadians

Urdu

